



اگر تم ویسے ہی ہو، جیسا تم نہ بتایا ہو، تو گویا تم انہیں گرم گرم راکھ کھلا رہو اور جب تک تم اس حالت پر رہو گے، اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ ایک مددگار متعین رہے گا

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے کچھ رشتہ دار ہیں، جن کے ساتھ میں صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برا رویہ رکھتے ہیں میں ان کے ساتھ تحمل سے کام لیتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اگر تم ویسے ہی ہو، جیسا تم نہ بتایا ہو، تو گویا تم انہیں گرم گرم راکھ کھلا رہو اور جب تک تم اس حالت پر رہو گے، اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ ایک مددگار متعین رہے گا"

[صحیح] [رواہ مسلم]

ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آکر شکایت کی کہ اس کے کچھ رشتہ دار ہیں، جن کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتا ہے اور وہ اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں وہ رشتہ جوڑتا ہے اور اس کے رشتہ دار کاٹتے ہیں وہ بھلا کرتا ہے اور اس کے رشتہ دار برا کرتے ہیں وہ بردباری دکھاتا ہے اور درگزر سے کام لیتا ہے اور اس کے رشتہ دار جہالت آمیز برتاؤ کرتے ہیں ایسے میں اس کی جانب سے صلہ رحمی کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے یا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تیری بات درست ہے، تو تم انہیں خود ان کی نظر میں رسوا اور ذلیل کر رہو گویا کہ تو انہیں گرم راکھ کھلا رہا کیوں کہ تم کثرت سے ان پر احسان کر رہے ہو اور وہ اپنے تئیں بد عملی کر رہے ہیں جب تک تو ان پر احسان کرنے کی اپنی اس روش پر قائم رہے گا اور وہ تیرے ساتھ بدسلوکی کی اپنی روش پر قائم رہیں گے، اللہ کی جانب سے ان کے خلاف ایک معاون اور تھے ان کی ایذا رسانیوں سے بچانے کے لیے ایک محافظ تیرے ساتھ لگا رہے گا

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3863>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

